

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
------------------	--------------------	-----------------

6th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 5 Q # (4,7)
------------------------------	-----------------------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw a vertical and horizontal bar graph for the following data. (1x5=5)

ایک عمودی اور ایک افقی بار گراف درج ذیل مواد سے بنائیں۔

Favourite Fruits پسندیدہ پھل	Mango آم	Strawberry سٹرابری	Banana کیلا	Watermelon تربوز	Peach ناشپاتی
Number of students طلباء کی تعداد	8	10	15	20	5

Q.2. Draw a histogram for the following frequency distribution table. (1x5=5)

درج ذیل تعددی تقسیم کے جدول سے ہسٹوگرام بنائیں۔

Marks نمبر	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
Number of students طلباء کی تعداد	25	40	38	27	40	18

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
------------------	--------------------	-----------------

6th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 5 Q # (4,7)
------------------------------	-----------------------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw a vertical and horizontal bar graph for the following data. (1x5=5)

ایک عمودی اور ایک افقی بار گراف درج ذیل مواد سے بنائیں۔

Favourite Fruits پسندیدہ پھل	Mango آم	Strawberry سٹرابری	Banana کیلا	Watermelon تربوز	Peach ناشپاتی
Number of students طلباء کی تعداد	8	10	15	20	5

Q.2. Draw a histogram for the following frequency distribution table. (1x5=5)

درج ذیل تعددی تقسیم کے جدول سے ہسٹوگرام بنائیں۔

Marks نمبر	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
Number of students طلباء کی تعداد	25	40	38	27	40	18

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
------------------	--------------------	-----------------

6th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 5 Q # (4,7)
------------------------------	-----------------------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw a vertical and horizontal bar graph for the following data. (1x5=5)

ایک عمودی اور ایک افقی بار گراف درج ذیل مواد سے بنائیں۔

Favourite Fruits پسندیدہ پھل	Mango آم	Strawberry سٹرابری	Banana کیلا	Watermelon تربوز	Peach ناشپاتی
Number of students طلباء کی تعداد	8	10	15	20	5

Q.2. Draw a histogram for the following frequency distribution table. (1x5=5)

درج ذیل تعددی تقسیم کے جدول سے ہسٹوگرام بنائیں۔

Marks نمبر	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
Number of students طلباء کی تعداد	25	40	38	27	40	18

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
------------------	--------------------	-----------------

6th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 5 Q # (4,7)
------------------------------	-----------------------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw a vertical and horizontal bar graph for the following data. (1x5=5)

ایک عمودی اور ایک افقی بار گراف درج ذیل مواد سے بنائیں۔

Favourite Fruits پسندیدہ پھل	Mango آم	Strawberry سٹرابری	Banana کیلا	Watermelon تربوز	Peach ناشپاتی
Number of students طلباء کی تعداد	8	10	15	20	5

Q.2. Draw a histogram for the following frequency distribution table. (1x5=5)

درج ذیل تعددی تقسیم کے جدول سے ہسٹوگرام بنائیں۔

Marks نمبر	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
Number of students طلباء کی تعداد	25	40	38	27	40	18